



میں تجھ اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا تم نے رسول اللہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ میری طرف سے جواب دے، اے اللہ! روح القدس کے ذریعے اس کی مدد فرما؟ تو انہوں نے کہا: اے اللہ تو (گواہ رہنا) ہاں (میں نے سنا تھا)۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ حسان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے اور وہ مسجد میں شعر پڑھ رہے تھے تو انہوں نے اس کی طرف غور سے دیکھنا شروع کر دیا تو انہوں نے کہا میں شعر پڑھا کرتا تھا اور اس (مسجد) میں وہ (رسول اللہ) موجود ہوتے تھے جو آپ (یعنی عمر رضی اللہ عنہ) سے بہتر ہیں پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میں تجھ اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم نے رسول اللہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ: میری طرف سے جواب دو اور اے اللہ! روح القدس کے ذریعے اس کی مدد فرما! تو انہوں نے کہا: اے اللہ تو (گواہ رہنا) ہاں (میں نے سنا تھا)۔
[صحیح] [اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے]

حدیث کا مفہوم: حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ مسجد میں شعر پڑھ رہے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے اور ان کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا جب حسان رضی اللہ عنہ نے ان کو اس طرح دیکھا تو ان سے کہا کہ: میں مسجد میں شعر پڑھا کرتا تھا اور اس وقت مسجد میں وہ موجود ہوتے تھے جو آپ سے بہتر ہیں (یعنی رسول اللہ)۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے گواہی طلب کی "یعنی ان سے گواہی دینے کا سوال کیا کہ جو وہ رسول اللہ کی موجودگی میں ان کے شعر پڑھنے کے حوالے سے جانتے تھے اور رسول اللہ نے اس کو برقرار رکھا اور ان کی شعر گوئی پر حوصلہ افزائی فرمائی تھی فرمایا: "تجھ اللہ کی قسم" یعنی میں اللہ کی قسم اور اس کا حلف دے کر پوچھتا ہوں: کیا تو نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: "اے حسان! رسول اللہ کی طرف سے جواب دو" یعنی مشرکین کے شعراء کو اپنے شعروں سے جواب دو اور نبی کریم کا دفاع اور اس کے دین کی مدد کرتے ہوئے ان کی جو بیان کرو اور کیا تم نے یہ فرماتے ہوئے بھی سنا تھا: "اے اللہ! روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرما" یعنی جبریل علیہ السلام کی قوت کے ساتھ جبریل علیہ السلام ان کو شعر اقام کرتے جو کہ دشمنان اسلام پر تیروں کی طرح لگتے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: ہاں، یعنی میں نے تمہیں رسول اللہ کے سامنے مسجد میں شعر پڑھتے ہوئے بھی سنا اور میں نے (رسول کو) یہ فرماتے ہوئے بھی سنا ہے۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/10889>